



سوال

اہل سنت اور اہل بدعت!

جواب

يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكْفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ سورة ال عمران آیت نمبر ۱۰۶ جس دن بعض چہرے سفید ہونگے اور بعض سیاہ، سیاہ چہروں والوں (سے کہا جائے گا) کہ تم نے ایمان لانے کے بعد کفر کیا؟ اب اپنے کفر کا عذاب چکھو۔ اس آیت میں سفید چہرے والے اور سیاہ چہرے والوں سے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اہل سنت والجماعت اور اہل بدعت وافتراق مراد لئے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا یہ قول کس کتاب میں ہے؟ اور اس کی صحت کیسی ہے الجواب بعون الوهاب سیدنا ابن عباس کا یہ قول اسی آیت مبارکہ کی تفسیر کے ضمن میں تفسیر ابن ابی حاتم میں موجود ہے۔